

# Pro

## Chapter 2

### Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	בְּנֵי	אִם-	תִּקַּח	אֲמַרְי	וְמִצְוֹתַי	הֲצַפֵּן	אֶתְּךָ:
	میرے-بیٹے	اگر-	قبول-کرے-گا	کلام-میرے	اور-حکموں-میرے	چھپائے-گا	اپنے-پاس
			<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0561</a>	<a href="#">H4687</a>	<a href="#">H6845</a>	<a href="#">H0854</a>

رکھ۔محفوظ میں دل اپنے احکام میرے کے کر قبول بات میری بیٹے، میرے

2	לְהַקְשִׁיב	לְהַקְמִיחַ	אֲזַנְךָ	תִּשָּׂחַ	לְבָבְךָ	לְהַבְנִיחַ:
	توجہ-دینے-کو	حکمت-کی-طرف	کان-اپنا	جھکا	دل-اپنا	فہم-کی-طرف
	<a href="#">H7181</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H0241</a>	<a href="#">H5186</a>		<a href="#">H8394</a>

کر۔مائل طرف کی سمجھ دل اپنا دھر، پر حکمت کان اپنا

3	כִּי	אִם	לְבִינָה	תִּקְרָא	לְהַבְנִיחַ	תִּתֵּן	קוֹלְךָ:
	کیونکہ	اگر	بصیرت-کے-لیے	پکارے-گا	فہم-کے-لیے	دے-گا	آواز-اپنی
			<a href="#">H0998</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H8394</a>	<a href="#">H5414</a>	

مانگ۔سمجھ کر چلا دے، آواز لئے کے بصیرت

4	אִם-	תִּבְקֶשְׁנָה	כִּכְסֶּךָ	וְכַמְשֹׁמֹנִים	תִּחַפְּשֶׁנָּה:
	اگر-	ڈھونڈے-گا-اسے	چاندی-کی-طرح	اور-خزانوں-کی-طرح	تلاش-کرے-گا-اسے
		<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H4301</a>	<a href="#">H2664</a>

بو۔خزانہ پوشیدہ گویا لگا کھوج یوں کا اُس بو، چاندی گویا کر تلاش یوں اُسے

5	אֶז	תִּבְיִן	יִרְאֵת	יְהוָה	וְדַעַת	אֱלֹהִים	תִּמְצָא:
	تب	سمجھے-گا	خوف	خداوند-کا	اور-علم	خدا-کا	پائے-گا
		<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H3374</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1847</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4672</a>

گا۔بو حاصل عرفان کا اللہ اور گی آئے سمجھ کی خوف کے رب تجھے تو کرے ایسا تو اگر

6	כִּי-	יְהוָה	יִתֵּן	חֲכֻמָּה	מִפִּי	דַּעַת	וְתַבְנִיחַ:
	کیونکہ-	خداوند	دیتا-ہے	حکمت	اس-کے-منہ-سے	علم	اور-فہم
		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H1847</a>	<a href="#">H8394</a>

ہے۔نکلتی سمجھ اور عرفان سے منہ کے اسی کرتا، عطا حکمت ہی رب کیونکہ

7	[וַצַּפֵּן]	([יִצְפֵּן])	לְיִשְׂרָאֵל	תּוֹשִׁיחַ	מָזֵן	לְהַלְכִי	תָם:
	[رکھتا-ہے]	رکھتا-ہے	سیدھوں-کے-لیے	کامیابی	ڈھال	چلنے-والوں-کے-لیے	دیانت-میں
	<a href="#">H6845</a>	<a href="#">H6845</a>	<a href="#">H3477</a>	<a href="#">H8454</a>	<a href="#">H4043</a>	<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H8537</a>

ہے۔ربتا بنا ڈھال کی والوں گزارنے زندگی بے الزام اور کرتا فراہم کامیابی کو والوں چلنے پر راہ سیدھی وہ

8	לְנֹצֵר	אֲרָחֹת	מִנְשָׁפֵט	וְדָרָךְ	[חֲסִידוֹ]	([חֲסִידוֹ])	יִשְׁמֹר:
	حفاظت-کرنے-کو	رابیں	انصاف-کی	اور-راہ	[بھکتوں-اپنے-کی]	بھکتوں-اپنے-کی	محفوظ-کرے-گا
	<a href="#">H5341</a>	<a href="#">H0734</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H2623</a>	<a href="#">H2623</a>	<a href="#">H8104</a>

ہے۔کرتا حفاظت کی اُن وہ وہاں ہیں چلتے دار ایمان کے اُس بھی جہاں ہے۔ کرتا داری پہرا کی رابوں کی پسندوں انصاف وہ کیونکہ

9	אֶז	תִּבְיִן	צִדִּיק	וּמִנְשָׁפֵט	וּמִיִּשְׂרָאֵל	כָּל-	מַעֲנֵל-	טוֹב:
	تب	سمجھے-گا	راستبازی	اور-انصاف	اور-صداقت	ہر-	راستہ-	اچھا
		<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H4339</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4570</a>	

گی۔ آئے سمجھ کی راہ اچھی ہر اور داری دیانت انصاف، راستی، تجھے تب

10	קי- کیونکہ -	תבוא חכמה	בלבבך	ורעת	לנפשך	ינעם:
	آئے -گی	حکمت	دل -تیرے- میں	اور- علم	جان- تیری- کو	پسند- ہوگا
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H1847</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H5276</a>	

گا۔ جائے ہو پیارا کو جان تیری عرفان و علم اور گی، جائے ہو داخل حکمت میں دل تیرے کیونکہ

11	מזמרה	תשמור	עליך	תבונה	תנצרכה:
تدبیر	نگہبانی -کرے- گی	تیری	فہم	حفاظت- کرے- گی- تجھے	
<a href="#">H4209</a>	<a href="#">H8104</a>		<a href="#">H8394</a>	<a href="#">H5341</a>	

گی۔ کرے چوکیداری تیری سمجھ اور حفاظت تیری تمیز

12	להצילך	מדרך	רע	מאיש	מדרך	תהפכות:
بچانے- کو- تجھے	راہ- سے	بری	آدمی- سے	بولنے- والے	ٹیڑھی- باتیں	
<a href="#">H5337</a>	<a href="#">H1870</a>		<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H8419</a>	

گی۔ رکھے بجائے سے والے کرنے باتیں رُو کج اور راہ غلط تجھے حکمت

13	העזבים	ארחות	ישר	ללכת	בדרך	חשך:
چھوڑنے- والے	راہیں	سیدھی	چلنے- کو	راہوں- میں-	اندھیرے- کی	
<a href="#">H0734</a>	<a href="#">H3476</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H2822</a>		

چلیں، پر راستوں تاریک تاکہ ہیں دیتے چھوڑ کو راہ سیدھی لوگ ایسے

14	השמחים	לעשות	רע	יזילו	בתהפכות	רע:
خوش- ہونے- والے	کرنے- سے	بدی	خوشی- مناتے- ہیں	ٹیڑھیں- میں	برائی- کے	
<a href="#">H8056</a>			<a href="#">H1523</a>	<a href="#">H8419</a>		

ہیں۔ مناتے جشن کر دیکھ رُو کج کی کام غلط ہیں، جاتے ہو خوش سے کرنے حرکتیں بُری وہ

15	אשר	ארחותיהם	עקשים	اولוזים	במעגלותם:
جو	راہیں- ان- کی	ٹیڑھی	اور- گمراہ	راستوں- میں- ان- کی	
<a href="#">H0734</a>	<a href="#">H6141</a>	<a href="#">H3868</a>	<a href="#">H4570</a>		

ہیں۔ پھرتے آوارہ چلیں بھی جہاں وہ اور ہیں، ٹیڑھی راہیں کی اُن

16	להצילך	מאשה	זרה	מנכרה	אמריה	החליקה:
بچانے- کو- تجھے	عورت- سے	پرائی	اجنبی- سے	باتیں- اس- کی	چکنی- ہیں	
<a href="#">H5337</a>	<a href="#">H0802</a>		<a href="#">H5237</a>	<a href="#">H0561</a>		

کرتی، باتیں چپڑی چکنی جو سے عورت اجنبی اُس ہے، چھڑاتی سے عورت ناجائز تجھے حکمت

17	העזבת	אלוף	נעוריה	ואת	ברית	אלהיה	שכחה:
چھوڑنے- والی	ساتھی	جوانی- اپنی- کا	اور-	عہد	خدا- اپنے- کا	بھول- گئی	
<a href="#">H7911</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H0853</a>				

ہے۔ جاتی بھول عہد کا خدا اپنے کے کر ترک کو ساتھی جیوں اپنے جو

18	כי	שחה	אל-	מות	ביתה	ואל-	רפאים	מעגלותיה:
کیونکہ	جھکتا- ہے	طرف-	موت- کی	گھر- اس- کا	اور- طرف-	مردوں- کی	راستے- اس- کے	
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7743</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7496</a>	<a href="#">H4570</a>	

ہے۔ پاتال مقصود منزل کی راہوں کی اُس موت، انجام کا ہونے داخل میں گھر کے اُس کیونکہ

19	כל-	באיה	לא	ישوبון	ולא-	ישינו	ארחות	תיים:
بر-	آئے- والے- اس- کے- پاس	نہیں	لوٹیں- گے	اور- نہیں-	پہنچیں- گے	راستے	زندگی- کے	
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5381</a>	<a href="#">H0734</a>		

گا۔ پہنچے نہیں دوبارہ پر راہوں بخش زندگی وہ گا، آئے نہیں واپس وہ جائے پاس کے اُس بھی جو

20 לְמַעַן תֵּלֵךְ בְּרֶגְלֶךָ טוֹבִים וְאַרְחֹתַי צְדִיקִים תִּשְׁמֹר: تاکہ چلے راہ-میں نیکوں-کے اور-راستے راستازوں-کے رکھے  
[H4616](#) [H3212](#) [H1870](#) [H0734](#) [H6662](#) [H8104](#)

ریں۔ پر راستے کے بازوں راست قدم تیرے کہ دے دھیان پھر، چل پر راہ کی لوگوں اچھے چنانچہ

21 כִּי- יִשְׂרָאֵל יִשְׁכְּנוּ אֶרֶץ אֲתוּמִימִים יִתְרוֹ כְּהֵ: کیونکہ- سیدھے رہیں-گے زمین-میں اور-کامل باقی-رہیں-گے اس-میں  
[H3477](#) [H7931](#) [H0776](#) [H8549](#) [H3498](#)

گے۔ رہیں باقی میں اُس ہی بے الزام آخرکار گے، ہوں آباد میں ملک والے چلنے پر راہ سیدھی کیونکہ

22 וְיִשְׁעִים מֵאֶרֶץ יִקְרָתוֹ: אֲבוֹנִים יִקְרָתוֹ: \* אֶרֶץ: \* اور-شریر زمین-سے کاٹ-ڈالے-جائیں-گے اور-دغاباز اکھاڑ-دیے-جائیں-گے اس-سے  
[H7563](#) [H0776](#) [H3772](#) [H0898](#) [H5255](#)

گا۔ جائے دیا کر خارج سے ملک کر اکھاڑ کو بے وفاؤں اور گے، جائیں مٹ سے ملک بے دین لیکن